

کثیر معنوی اردو تھیسارس

بنیادی خیال

انگریزی میں روجے (Roget) نے پہلی بار تھیسارس (Thesaurus) مرتب کیا تھا۔ اس کے خیال میں الفاظ کے مترادف، متضاد اور متلازم (associated) الفاظ اس طرح سے جمع کیے جائیں جو ایک خاص ذہنی تقسیم کے گروہوں میں موجود ہوں۔ اس نے کوئی ایک ہزار بنیادی اندراجات پیش کیے۔ چونکہ وہ ماہر تعلیم ولسانیات و معنویات نہیں تھا، بلکہ ایک حیاتیات دان تھا، اس لیے اس کی تقسیم حیاتی تمیہ (Biological Nomenclature) پر منتھی، جس میں قدرے فلسفہ شامل تھا۔ عام پڑھا لکھا شخص اس سے فائدہ بردا راست نہیں اٹھا سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے اشاریہ مرتب کرنا پڑا۔ اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اب دوسرے لغات نما تھیسارس مرتب ہوئے ہیں جو تھیسارس کا بنیادی مقصد پورا نہیں کرتے۔ اردو میں روجے ہی کو سامنے رکھ کر رفیق خاور سے ”اردو تھیسارس“ مرتب کرایا گیا۔ اس میں وہی پہلو سامنے آئے چنانچہ اس میں بھی اشاریہ وضع ہوا۔ مگر اب علم و قلم بردا راست استفادہ نہیں کر سکے۔

رفیق خاور کے بعد احسان دانش نے ”اردو مترادفات“ مرتب کی۔ لیکن اس میں صرف چند مترادفات دے کر ترکیبات و مرکبات دے دیے گئے۔ پھر الفاظ اور ان کی ترتیب بھی ان کی ذاتی پسند ناپسند تھی، اس لیے عام قاری اسے بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کا حل وارث سرہندی کی مرتبہ ”اردو مترادفات“ میں نکالنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں بھی چند مترادفات اور ترکیبات تھیں۔ مگر تعداد زیادہ

تھی۔ ہر حال، یہاں حوالوں کی کثرت سے بچتے ہوئے مُحض اپنے نبیادی خیال کو پیش کرنا ضروری ہے۔ تحریر و تقریر میں اچانک ہمیں صرف الفاظ کے مترافات، متفاادات اور ملازمات ہی کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ محل استعمال، ترکیبات، مرکبات، قافیہ وہم ردیف الفاظ اور ہم جنس صوتی (تجنیسی) اور ہم جنس حرفي الفاظ کے فرق اور امتیاز کو بھی لمحوڑ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانا ہوتا ہے کہ یہ کس جزویاً کل، کس گروہ یا جنس اور کس نوع یا قسم سے تعلق رکھتا ہے۔

ان کے علاوہ ہر لفظ کا مُحض متفاادہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کی ایک درمیانی صورت یا میانہ لفظ بھی ہوتا ہے اور ہر میانہ لفظ کا ایک متفاادہ یا معکوس لفظ بھی ہوتا ہے۔ گویا تھیسارس کو اس حد تک وسیع ہونا چاہیے۔ ویسے تو تذکیر و تائیث، واحد جمع اور دیگر مُحضی امکانات بھی اس کا حصہ ہونے چاہیے، مگر ان سے قطع نظر باقی اندر اجات کا فہم بھی عام نہیں۔ اردو کے کل بیس ہزار الفاظ ہیں۔ کچھ دوسری زبانوں سے آئے ہوئے مستعمل الفاظ ملکر پینتیس / چالیس ہزار الفاظ بننے ہیں۔ اصطلاحیں اور ترکیبیں، محاورے، روزمرے، ضرب الامثال ملائیں تو یہ تین لاکھ سے اوپر پلے جاتے ہیں لیکن مشکلات صرف چند الفاظ میں آتی ہیں جنہیں نبیادی اندر اجات کہتے ہیں۔ یہ کوئی دو ڈھانی ہزار ہیں۔ چنانچہ ایک کثیر معنوی تھیسارس کی ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے۔ یہ اردو تحریر و تقریر کے لیے اہم نبیادی الفاظ کے مترافات، متفاادات، ملازمات، ترکیبات، مرکبات، میانہ و معکوس نیز ہم قافیہ وہم ردیف اور ہم جنس الفاظ کا خزینہ ہوگا۔

مثال کے طور پر ”صحیح“ کے مترافات سویرا، تڑکا وغیرہ ہیں۔ اس کے متفاادات شام، مغرب، غروب، جھٹپٹا، اندھیرا ہیں لیکن ایک درمیانی یا میانہ صورت ”دوپہر“ ہے، اس کے مترافات نصف النہار، دن چڑھے وغیرہ ہیں۔ یہ اس میانہ صورت کی برکس یا معکوس صورت آدمی رات، عشا وغیرہ ہیں۔ اس طرح صحیح کا ہم جنس یا تجنیس صوتی ”سب“ اور ترکیبات صحیح اzel وغیرہ ہیں۔ تجنیس حرفي کی ایک اہم مثال کار (Car) اور کار (Car) سے ہے جو دو مختلف ماذوں سے آئے ہیں اور مغالطہ ڈالتے ہیں۔

تجنیس صوتی کی ایک اہم مثال ”اثر“ اور ”عصر“ کی ہے۔ اسی طرح جزو/کل، گروہ/جنس،

نوع / اقسام اور دیگر استعمالات ہیں۔ محاورے، روزمرے، ضرب الامثال، سلیگ / غیر رسی، متعلق فعل، ذکر مونث واحد، جمع ہیں۔ پھر ہر لفظ کے مختلف معانی ہیں۔ اس طرح کا تیار کردہ تھیسارس تحریر اور تقریر میں جامع مددے گا۔

محوزہ کثیر معنوی اردو تھیسارس کا خاکہ

۱۔ نبیادی لفظ

معنی نمبرا

- | | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| نوع / اقسام | گروہ / جنس | جزو/کل |
| ۱۔ اسماء، صفات، افعال، متعلق فعل، محاورے، روزمرے، ضرب الامثال، غیر رسی / سلیگ | ۲۔ مترادفات | ۳۔ ملازمات |
| الفاظ، تذکیر و تائیث، واحد جمع | ۴۔ مرکبات / ترکیبات | ۵۔ دیگر استعمالات: |
| ۶۔ اہم قافیہ وہم ردیف | ۷۔ متفاadalفظ | ۸۔ متفاadalفظ |
| ۹۔ حسب سابق موضوعات | ۱۰۔ جزو/کل ۱۲۰-۱۲۱ تا۔ | ۱۱۔ میانہ لفظ |
| ۱۲۔ حسب سابق موضوعات | ۱۳۔ جزو/کل ۲۱۷-۲۱۸ تا۔ | ۱۴۔ معکوس (برکس میانہ لفظ) |
| ۱۵۔ معکوس (برکس میانہ لفظ) | ۱۶۔ جزو/کل ۲۲۷-۲۲۸ تا۔ | ۱۷۔ جزو/کل ۲۲۸-۲۲۹ تا۔ |
| ۱۸۔ جزو/کل ۲۳۰-۲۳۱ تا۔ | | |

۲۹۔ معنی نمبر ۲

۲۔ جزو/کل ۲۳۔ تا ۷۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۸۔ متفاہ لفظ

۹۔ جزو/کل ۱۰۔ تا ۱۳۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۱۵۔ میانہ لفظ

۱۶۔ جزو/کل ۷۔ تا ۲۱۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۲۲۔ معکوس (برکس میانہ لفظ)

۲۳۔ جزو/کل ۲۲۔ تا ۲۸۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۲۹۔ معنی نمبر ۳

۲۔ جزو/کل ۳۔ تا ۷۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۸۔ متفاہ لفظ

۹۔ جزو/کل ۱۰۔ تا ۱۳۔ حسب سابق موضوعات۔

۱۵۔ میانہ لفظ

۱۶۔ جزو/کل ۷۔ تا ۲۱۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۲۲۔ معکوس (برکس میانہ لفظ)

۲۳۔ جزو/کل ۲۲۔ تا ۲۸۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۲۹۔ معنی نمبر ۴

۲۔ جزو/کل ۳۔ تا ۷۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۸۔ متفاہ لفظ

۹۔ جزو/کل ۱۰۔ تا ۱۳۔ حسب سابق موضوعات۔

۱۵۔ میانہ لفظ

۱۶۔ جزو/کل ۷۔ تا ۱۲۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۲۲۔ معکوس (برکس میانہ لفظ)

۲۳۔ جزو/کل ۲۲۔ تا ۲۸۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۲۹۔ معنی نمبر ۲

۲۔ جزو/کل ۳۔ تا ۷۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۸۔ متفاہ لفظ

۹۔ جزو/کل ۱۰۔ تا ۱۳۔ حسب سابق موضوعات۔

۱۵۔ میانہ لفظ

۱۶۔ جزو/کل ۷۔ تا ۲۱۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۲۲۔ معکوس (برکس میانہ لفظ)

۲۳۔ جزو/کل ۲۲۔ تا ۲۸۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۳۰۔ تجھیں حرفي نمبر ۲

۲۔ جزو/کل ۳۔ تا ۷۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۸۔ متفاہ لفظ

۹۔ جزو/کل ۱۰۔ تا ۱۳۔ حسب سابق موضوعات۔

۱۵۔ میانہ لفظ

۱۶۔ جزو/کل ۷۔ تا ۲۱۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۲۲۔ معکوس (برکس میانہ لفظ)

۲۳۔ جزو/کل ۲۲۔ تا ۲۸۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۳۰۔ تجھیں حرفي نمبر ۳

۲۔ جزو/کل ۳۔ تا ۷۔ ایضاً۔ حسب سابق موضوعات۔

۸۔ متفاہ لفظ

۹۔ جزو/کل ۱۰۔ تا ۱۳۔ حسب سابق موضوعات۔

٨ - متصاد لفظ

- ٩- جزو/كل---١٠---١٢- حسب سابق موضوعات.

٥- ميانه لفظ

١٦- جزو/كل---٧---٢١- ايضاً- حسب سابق موضوعات.

٢٢- معكسون (رکس ميانه لفظ)

٢٣- جزو/كل---٢٢---٢٨- ايضاً- حسب سابق موضوعات.

٦- تجنيس صوتي نبر

٢- جزو/كل---٣---٣- ايضاً- حسب سابق موضوعات.

٧- متضاد لفظ

٩- جزو/كل---١٠---١٢- حسب سابق موضوعات.

٨- ميانه لفظ

١٦- جزو/كل---٧---٢١- ايضاً- حسب سابق موضوعات.

٢٢- معكسون (رکس ميانه لفظ)

٢٣- جزو/كل---٢٢---٢٨- ايضاً- حسب سابق موضوعات.

٩- على پنه القياس (خصوصي)

نمونے کے صفات

انہائی مکملیکی کام ہونے کے سبب جب تک نمونے کا کام سامنے نہیں آئے گا، اس خاکے کی تفہیم نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے بطور نمونہ دو صفحات کا عکس پیش ہے۔

۱۰۷

- ۱- خاور، رفیق، اردو تھیسارس، اسلام آباد: مقتدرہہ قومی زبان، ۱۹۹۷ء۔
 - ۲- دلش، احسان، اردو مترادفات، لاہور: ۱۹۷۵ء۔
 - ۳- سرہنڈی، وارث، قاموس مترادفات، لاہور: اردو سائنس بورڈ، طبع دوم، ۲۰۰۴ء۔

۱۵ - میانہ لفظ

- ١٢- جزو/كل---٧-تا-٢١-اينما-حسب سابق موضوعات-

٢٢- معموس (برعكس ميانه لفظ)

٢٣- جزو/كل---٨-تا-٢٨-اينما-حسب سابق موضوعات-

٣- تجنيس حرفى نمبر

٢- جزو/كل---٣-تا-٧-اينما-حسب سابق موضوعات-

٨- متضاد لفظ

٩- جزو/كل---١٠-تا-١٣-اينما-حسب سابق موضوعات-

١٥- ميانه لفظ

١٦- جزو/كل---٧-تا-٢١-اينما-حسب سابق موضوعات-

٢٢- معموس (برعكس ميانه لفظ)

٢٣- جزو/كل---٢٣-تا-٢٨-اينما-حسب سابق موضوعات-

٣- تجنيس صوتى نمبر

٢- جزو/كل---٣-تا-٧-اينما-حسب سابق موضوعات-

٨- متضاد لفظ

٩- جزو/كل---١٠-تا-١٣-اينما-حسب سابق موضوعات-

١٥- ميانه لفظ

١٦- جزو/كل---٧-تا-٢١-اينما-حسب سابق موضوعات-

٢٢- معموس (برعكس ميانه لفظ)

٢٣- جزو/كل---٢٣-تا-٢٨-اينما-حسب سابق موضوعات-

٣- تجنيس صوتى نمبر

٢- جزو/كل---٣-تا-٧-اينما-حسب سابق موضوعات-

۱- بنیادی لفظ

معنی نمبرا۔ زمین کا حصہ جو پانی سے باہر ہے

- کل: زمین ہے: عظم، جزیرہ، خاک
 - گردنیاد: ہم: طوس
 - لوگوناہ: قسم: بزمیں
 - مترادفات: (اسم) بزمیں، زمین، ارض، گراوئنڈ، رائج مسکون، سر زمین، درستی،
 - مثلاً: بزمیں، بر صغیر کوچ، بزرگ، نما، بارہ، طاس، قلبنا، احباب، اراضی، خاکتائے، راس، خگلان، قہستان، سعی، مرتفع، ساحل، میدان، پہاڑ، درستے، وادی، ریتی، کلوغ، ریبوم، چنان، گارا، چکنی مٹی، سفال، چاک، ماہر اراضیات، زمین، شای، جغرافیہ، پیاس ارض، ارضیات، جغرافیہ دال، مبلقات الارض، مالک اراضی، کاشکار، زمیندار، ہاری، ہزارع۔
 - دیگر استعمالات:
 - (معفت) خشک، برقی، ارضی، بر اعظمی، میدانی، علاقائی، دریائی، زرگی، برقی، زراعت پیشہ، سفالی، خشک، روکھا، چیکا، بے کیف، بھس سوکھل۔
 - (عقل فل) بھکلی کے طور پر، بر کنار۔
 - (فل) بھکلی دیکھنا، بھکلی پر اتنا، قدم رکھنا۔
 - ہم قانی، ہم روایت: پاکی بھکلی، تھکلی، بھکری، بھکلی، چکلی، چکلی، غاکی، چوکی، بھکی، دھکی، ذکبی، سکی، کلکی، فلکی، کھڑکی، کڑکی، لڑکی، ملکی، بیکی، بکلی، وغیرہ۔

١- متضاد

تی

- کل: سمندر، پانی جزو پانی، قطروه۔
 - گروہ ناہد جنس: نائج
 - لوس: سمندر اقسام: ندی، نالہ، دریا، جھیل، کوواں، تالاب، جوپر، کاریز۔
 - محرادفات: (اکم) تری، پانی، آب، رطوب، جھرنا، سمندر، سچک، سارگ، سیم، قلزم، محیط۔
 - مخلات: سلاب، آب شور، ملاطم، امواج، چیڑے، تردام، ترخندہ۔

